

Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions.

(10)

بعض اوقات ایسا بھی ہر دور اپنے ساتھ بہت سے ایسے معاملات بھی لے کر آتا ہے جو کسی کی پسند کے نہیں ہوتے مگر انہیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرت شاید ہمیں آزمانے کی خاطر ایسا بہت کچھ ہمارے سامنے رکھتی ہے جو ہمارے مطلب کا نہیں ہوتا بلکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا مگر پھر بھی اسے زندگی کا حصہ بناتے ہوئے چلنا پڑتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی چل رہا ہے۔ ہر صدی اپنے ساتھ ایسی تبدیلیاں لاتی رہی ہے جو گزشتہ صدیوں کے مقابلے میں بالکل نئی تھیں۔ فطری علوم و فنون کی ترقی نے انسان کو ایسا بہت کچھ دیا ہے جسے علمی و معاشی عمل کا پھر اقرار دیا جاتا ہے۔ قدرت ہمیں چل دیتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی پابند کرتی ہے کہ اس کے جھکوں کو ڈھنگ سے ٹھکانے لگائیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو احوال کی غلطت بڑھتی ہے



# Translation 2022

every era brings along such circumstances which are not

There are some circumstances in every era, which had to be accepted even if they are not according to someone's likings. Sometimes, nature presents things against our will for testing us. But, we had to ~~had~~ make them a part of our lives. <sup>we</sup> ~~had~~ <sup>even today</sup> Same is happening in today's world.

Every century comes with <sup>which are new as compared to previous centuries</sup> completely new changes with itself. The progress of <sup>natural sciences and arts</sup> nature's literature has given man the things, which can be called as the leftovers of educational and economic development. Nature gives us ~~the~~ fruits and, in return, compelled to dispose off <sup>off its peel properly</sup> the garbage. In contrast, it ~~is~~ aggregated the dirtiness of our environment.

0410

urdu words and sentences are left untranslated  
translate word to word

need improvement not satisfactory